



سوال

کیا اللہ تعالیٰ کا عرش کسی گناہ کی وجہ سے لرزتا ہے؟

جواب

الحمد للہ

ہمیں کتاب و سنت میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ رحمن کا عرش کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہو، یہ بات ٹھیک ہے کہ زنا اور لواطت انتہائی سنگین جرائم اور کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ عرش ان کی وجہ سے لرزٹھے، چنانچہ کسی شرعی صحیح اور صریح دلیل کے بغیر اس بات کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"عرش اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان مخلوق ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے لرز اٹھتا ہے۔" ختم شد

"سیر اعلام النبلاء" (1/297)

یہاں ہم سائل کو یہ متنبہ کرتے چلیں کہ ان بے حیائی کے کاموں کے متعلق عرش کانپ اٹھنے سے بھی کہیں زیادہ سخت بیانیہ نصوص سے ثابت ہے۔

جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنی مدح پسند نہیں کرتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مدح فرمائی ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (4634) اور مسلم: (2760) نے روایت کیا ہے۔

اسی طرح ایک اور روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے یا باندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اگر تمہیں بھی وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو مجھے علم ہیں تو تم ہنسنا کم کر دو، اور بہت زیادہ رونے لگو۔)

غیرت کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"غیرت میں متعلقہ کام سے اتنی ناگواری اور ناراضی بھی شامل ہوتی ہے جو انسان کو اس سے روک دے۔۔۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تمام چیزیں ناگواری ہیں، ذات باری تعالیٰ کو ہر وہ چیز ناگواری ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر حکم دی ہوئی چیز کو پسند کرتا ہے، بلکہ غیرت میں شدید نوعیت کی ناگواری پائی جاتی ہے؛ کیونکہ جس چیز کی وجہ سے کوئی غیرت میں آئے تو اس سے شدید ناگواری بھی رکھتا ہے، لیکن ہر ناگواری چیز کی وجہ سے غیرت نہیں آتی؛ چنانچہ معلوم ہوا کہ غیرت میں زیادہ نا پسندیدگی اور زیادہ ناگواری ہے۔"

ختم شد

"قاعدة فی المحبة" (200-201)

واللہ اعلم